

JUZ IX

88. Pemuko-pemukokunei kaum Su'aib da mombong dirai madeak: sebeneane keme lok musir udi hoi Su'aib ngen tun-tun da beimen serpok-nu kunei kota keme kecuali udi belek gen agamo keme, Su'aib nadeak gen janokah (udi lok musir keme) walaupun keme coa setujau.
- ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَؤُا كُنَّا كَرِهِينَ ﴾
89. Niyen keme made-made ngike d alai adep Allah amen keme belek ngen agamone sudo Allah empas keme kunei-ne, dan coa patut keme belek ngen si kecuali amen Allah Tuhan keme kemlok-ne. Keluasan pengetahuan Tuhan keme das kute-kutene, ngen Allah ba keme semrak dirai, hoi Tuhan keme nelei ba keputusan antaro keme ngen kaum keme nge haq (adea)dan keputusan-ko ba keputusan da s e b a i k - b a i k - n e .
- ﴿ قَدْ أَفْتَرْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا أَفْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾
90. Pemuko-pemuko kaum Su'aib da kapea madeak (ngen sesamone) sebenea-ne amen udi temoto-a Su'aib paset udi amen menea awei-o (jijai) tun-tun da rugai.
- ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ ﴾
91. Sudo-o si tenipo gepo, mako jijai ba si mayat-mayat da bergulek neak lem umeak-umeak-ne.
- ﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴾
92. (dio ba) tun-tun da ngike Su'aib awei si ate pernah diyem neak ota-o, tun-tun da mike Su'aib si-oba tun-tun da rugai.
- ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴾
93. Mako Su'aib teming(g)ea si samo madeak hoi kaumku sebenea-ne uku sudo semapei ngen udi pesen-pesen tuhanku dan uku sudo melel nasehat ngen udi, mako akuak ro uku lok bersedih ate adep t u n - t u n d a k a p i a ?
- ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَأْسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾

94. Keme coa ba mutus do nebai ngen do negrai (lajau pendudukne ngike nebai-o) kecuali keme tempio ngen pendudukne sepit ngen menderita buliak si tunduk ngen merendeak dirai.
- وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾
95. Sudo-o Keme gemiti saro-o ngen kesenangan sapei keturunan ngen hartone tambeak dau, si madeak sebeneane ninik moyang keme sudo meding penderitaan (saro) ngen kesenangan mako keme tempio sikso utuk-ne ngen tibo-tibo sedangkan si coa sadar.
- ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواُ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الصَّرَآءُ وَالسَّرَآءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾
96. Amen sekirone pendudduk negrai beimen gen betaqwa pasetba Keme lok mlimpahkan ngen si kunei lenget gen bumei, tapi si ngike ngike (ayat-ayat Keme)-o mako Keme sikso kerno uleak-ne dewek.
- وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾
97. Mako janokah penduduk-penduduk negrai-o meding asai aman kune tekone siko Keme ngen si neak kelmen bilai neak waktau si idong tidua.
- أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾
98. Atau janokah penduduk ngrai-o meding aman kunei tekone sikso Keme ngen si neak waktau matai bilai kelkat juluk k e n e k i d o n g s i m a i n .
- أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾
99. Mako janokah si meding aman kunei azab Allah (da coa teduga) coaba meding aman kunei azab Allah kecuali tun-tun da rugai.
- أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۗ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾
100. Dan janokah ati jemlas bagi tun-tun da pusako do negrai sudo (nyep) pendudukne, amen Keme kemlok paset Keme mazabsi kerno duso-dusone, dan Keme kemucaai matai atei-ne sapei si coa
- أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَنَطْبَعُ

dapet temi-uk.(pelajaran igai).	<p>عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠﴾</p>
<p>101. Negrai-negrai (da sudo Keme mbinaso)-o Keme cemrito pao-ne brita-britane ngen udi dan sang(g)uak sudo teko ngen si rasul-rasul si ngen mbin bukti-bukti da nyato mako si (kulo) coa beimen ngen jano bel-o-ne si sudo mikene, aweo ba Allah kemucaai matai atei tun-tun da k a p e a .</p>	<p>تِلْكَ الْأَقْرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۗ كَذَٰلِكَ يَطَّبِعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١١﴾</p>
<p>102. Dan Keme coa dapet daune megong janjai, sebenea-ne Keme temau dau-ne tun-tun da pasik.</p>	<p>وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۗ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٢﴾</p>
<p>103. Sudo-o Keme mutus Musa sudo rasul-rasul-o ngen mbin ayat-ayat Keme utuk fir'au ngen pemuko-pemuko kaumne lajau si ingkar ngen ayat-ayat-o, mako perhatikanba akuak-ro kesudone tun-tun da menea usak.</p>	<p>ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ فَظَلَمُوا بِهَا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٣﴾</p>
<p>104. Dan Musa madeak hoi firaun sebenea-ne uku yo ba ruang nutus kunei tuhan semesta alam.</p>	<p>وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾</p>
<p>105. Wajib atas ku coa madeak sesuatu adep Allah suluyen da haq, sebeneane uku teko ngen ko mbin bukti-bukti da nyato kune tuhan-nu mako lepaskan ba bain Israil (alau) serpok ku.</p>	<p>حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٥﴾</p>
<p>106. Firaun jemawab amen udi benea mbin suatu bukti-bukti mako ketenba bukti-o amen (benea) udi termasuk tun-tun da b e n e a .</p>	<p>قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٦﴾</p>

107. Mako Musa cemucia tokot-ne lajau tekjut sa'at-o kulo tokot-o ijai dung da nyien.

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾

108. Dan si kenlua tangent-ne mako sa'at-o kulo tangen-o ijai putiak bercahayo (ulesne) api tun-tun da kemliak-ne.

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿١٠٨﴾

109. Pemuko-pemuko kaum fir'aun madeak sebeneane Musa-o ba ahli sihir da pacok.

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ

عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾

110. Da bemaksud lok kemlua udi kene negrai-ne (Fir'aun madeak) mako janokah d a u d i m e l u a k .

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

﴿١١٠﴾

111. Pemuko-pemuko-o jemawab nelei waktau-ba si ngen sepasuak-ne kulo kirim-ba moi kota-kota dau-dau tun da lok kenopoa (ahli-ahli sihir)

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ

﴿١١١﴾

112. Buliak udi mbin da tukang sihir da pacok.

يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾

113. Dau ahli sihir-o teko ngen fir'aun madeak (janokah) keme dapet upeak amen keme da menang ?

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا

إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾

114. Fir'aun jemawab au, sebenea-ne udi benea-benea lok termasuk tun-tun da paok (ngen uku).

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾

115. Tukang-tukang sihir madeak hoi Musa janokah udi da lok meluk-ne lebiak deno janoka keme da meluk ?

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ

الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾

116. Musa jemawab keluk ba deno, mako idong si meluk si semulap matae tun ngen menea tun dau-o saben si kulo mbin sihir d a l a i .

قَالَ الْقَوَا ط فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ
وَأَسْتَرَهُبُهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ١١٦

117. Dan Keme wahyukan ngen musa neluk-ba tokot-nu mako tibo-tibo tokot-o temlen jano da si semulap.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ط فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٧﴾

118. Kerno-o keten bad a benea dan balba da t e r u s u d i k e m r e j o .

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٨

119. Mako si kaleak neak plabai-o ngen jijai-ba si da hino.

فَعَلَبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ١١٩

120. Dan tukang-tukang sihir-o langsung tunduk dirai ngen besujud.

وَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ١٢٠

121. Si madeak keme berimen ngen tuhan semesta alam.

قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ١٢١

122. (dio-ba) tuhan Musa ngen Harun.

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٢٢

123. Fir'aun Madeak janokah udi berimen ngen si ayok uku melei ijin gen udi , sebeneane (kerjo) yoba suatu muslihat da sudo udi merencano neak kota yo utuk kenlua pendudukne kune padone, mako konyo udi paset namen (akibat uleak-nu-o)

قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ط إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ط فَسَوْفَ تَعْمَلُونَ ١٢٣

124. Sung(g)uak sebenea-ne uku lok temtok tangent ngen kekea-nu nge silang cao timbal balik sudo-o niyen-niyen uku lok smalib udi kutene.

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَأُسَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٢٤

125. Tukang sihir njawab sebenea-ne ngen tuhan ba keme belek.

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٢٥

126. Dan udi coa semaleak keme seluyen kerno keme sudo beimen ngen ayat-ayat tuhan keme gidong ayat-ayat-oteko ngen keme, (si du-o) hoi tuhan keme keliba kesabaran ngen keme dan wafatkan keme lem keada-an semrak dirai (ngen ko).
- وَمَا تَنْقُمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾
127. Miling bad a gerot-gerot kunei kaum fir'aun (ngen Fir'aun) janokah udi ngunyau Musa ngen kaum-ne utuk menea usak neak negrai-yo (Mesir) ngen teming(g)a udi kulo ngen tuhan-tuhan-nu ? Fir'au njawab konyo ite munuak anak-anok semane-ne dan ite munyau hidup anak slawei-ne, sebenea-ne ite bekuaso p e n u a k n e a k d a s - n e .
- وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتِكَ قَالَ سُنُقِتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾
128. Musa madeak ngen kaum-ne minoi ba petulung ngen Allah dan sabarba sebenea-ne bumei (yo) Allah da tuan Si melei ngen pei da Si kemlok-ne kunei umat-umat-Ne, dan kesudo da baik oba utuk tun-tun da betakwa.
- قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّا وَالْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾
129. Kaum Musa madeak keme sudo tenindas (oleh Fir'aun) ayok udi teko ngen keme ngen kesudo udi teko, Musa jemawab mudah-mudahan Allah mbinaso musuak udi ngen udi ijai kholifah neak muko bumei mako Allah lok kemliak akuakro uleak-ne.
- قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾
130. Dan sebenea-ne Keme sudo mukum (Fir'aun) ngen kaum-ne dan (teko) musim panes da panjang dan ku-ang buak-buak buliak si mok pelajaran.
- وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾
131. Sudo-o amen eko ngen si kemakmuran (makmur) si madeak dio ba usaho keme, dan amen tenipo saro si meluk sial-o kerno Musa gen tun-tun da beserto-ne,
- فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا إِنَّمَا

- namen ba sebenea-ne sial si-o tentep kunei Allah tapi daune coa namen.
- طَطِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾
132. Si madeak awei ipe bae udi melei keterangan ngen keme utuk semikir keme ngen keterangan-o, mako keme agok debat coa beimen ngen ko.
- وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾
133. Mako keme kengirim ngen udi taufan (angina lai) belalang, gutau, kekek ngen daleak utuk bukti da jelas tapi si tep mom(b)ong dirai, dan si-oba kaum da nduso.
- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدمَّ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾
134. Dan idong si tenipo azab (dasudo tem-ang-o) si madeak hoi Musa ninoi-ba utuk keme gen tuhan-nu (ngen perantara) nebai da namen Allah ade neak adept-nu, sebenea-ne amen udi dapet empas azab-o kune keme paset keme lok beimen ngen ko dan ngen-ko keme ngunyawu bani Israil a l a u s e r p o k - n u .
- وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمُوسَى اذْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾
135. Mako sudo Keme empas azab-o kune-ne sapei batas waktawu da si sapei ngen-ne tibo-tibi si ngike-ne.
- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَلَّغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿١٣٥﴾
136. Sudo-o Keme mukum si mako Keme mendem-si neak laut kerno si ngeke ayat-ayat Keme kulo si yoba tun-tun da melalai ayat-ayat Keme-mo.
- فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِآيِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾
137. Dan Keme mewariskan ngen kaum da sudo tetindas-o negrai-negrai bagian timur bumei ngen bagian barat-ne da sudo Keme melei berkah utuk-ne. Dan sudo sempurno-ba padeakl Tuhan-nu da baik (utuk janjai) utuk bani Israil sebab kesabaran si.dan Keme majua jano da sudo nea fir'aun ngen kaum-ne gen jano
- وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ

da sudo nebangun-ne.

وَقَوْمُهُ، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

138. Dan keme sembe-ang bani Israil moi sembe-ang laut-o mako sudo si sapei ngen suatu kaum da tep sembeak patung-ne, bani Israil madeak : Hoi Musa nea-ba utuk keme do tuhan (patung) awei ipe si ade dau tuhan (patung) Musa jemawab sebeneane udiyo ba kaum da coa namen (s i p e t - s i p e t T u h a n)

وَجَوْرَنَا بِنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَوَّا عَلَيَّ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَيَّ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمْوَسَىٰ أَجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾

139. Sebenea-ne si-o lok majua kepercayaan jano percayone dan paset batal jano da t e r u s u d i k e m r e j o .

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُم فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

140. Musa jemawab patutkan uku mesoa tuhan utuk udi dea seluyen kenei Allah padahal Si-oba dasudo melebihi udi kune kute umat.

قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغَيْكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَيَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾

141. (Dan inget-ba hoi bani Israil) idong Keme smlamat udi kune (fir'aun) ngen kaum-ne da mazab udi ngen azab da lebiak kidek, iyoba si munuak ano-anok semanei udi ngen munyau idup selawei-selawei udi, da awei-o coba-an da lai kunei Tuhan-nu.

وَإِذْ أَجْنَيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

142. Dan sudo Keme jemmanjai ngen Musa (melei Taurat) sudo liwet waktau telau puluak malem dan Keme sempurnokan jumlah malem-o ngen depuluak (malem igai) mako sempurnoba waktau da sudo tentau Tuhan-ne pat puluak malem. Musa madeak ngen sepasuak-ne-o Harun gitiba uku lem (mipin) kaumku, nuruak ba, jibeak ba udi temotoa dalen tun-tun d a m e n e a u s a k .

﴿١٤٢﴾ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِّمْقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٣﴾

143. Dan idong Musa teko utuk (munajat) ngen Keme neak waktau da sudo Keme tentep, Tuhan sudo madeak (lasung) ngen Si. Musa nadeak hoi Tuhanku ketenba (dirai-Nu) ngen uku buliak uku dapet kemliak-Ko, Tuhan madeak udi coa dapet, sang(g)up kemliak Uku tapi keliak ba moi tebo-o mako amen si tep neak plabaine (awei bel-o) paset udi kemliak Uku, idong Tuhan kemten dirai ngen tebo-o ijai tebo-o ajua ngen Musa kulo us pisan, mako sudo Musa sadar igai si madeak paling sucai-Ko uku betubat ngen-Ko ngen uku tun da pertama
b e i m e n .
- وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرِنِي وَلَكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾
144. Allah madeak hoi Musa sebenea-ne Uku miliak (melbiak) ko kunei manusio da luyen (neak masone) utuk mbin critoKu gen miling lasung ngen uku, kerno-o kegong kuwet ba ngen jano da Uku melei ngen ko, termasuk ba ko tun-tun da besukur.
- قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَأَمْرِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾
145. Dan sudo Keme cematet utuk Musa lem laukh-laukh (Taurat) kute-kute-ne utuk pelajaran gen penjelasan utuk kute-kute-ne, mako (Keme madeak) kegong ba utuk-ne ngen sebaik-baik-ne hanyo Uku lok kemten utuk-nu negrai tun-tun da fasik.
- وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَاخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾
146. Uku lok maliak adep-nu tun-tun da mombong dirai-ne neak muko bumei tanpa alasan da benea kunei tando-tando kekuasaanKu, amen si kemliak tiep-tiep ayat (Ku) si coa beimen ngen-ne, amen si kemliak dalen dam bin moi petunjuk si coa lok tempuak-ne, tapi amen si kemliak dalen sesat si terus medeu-ne, da awei-o
- سَاءَصْرَفُ عَن آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الغِيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ

ba kerno si ngike ayat-ayat Keme dan si terus lalai kunei-ne.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ



147. Tun-tun da mengike ayat-ayat Keme ngen ngike lok temau akhirat sio-sio ba mea-ne, si coa nelei bales seluyen kunei jano da sudo si kemrejo.

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْأَخْرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



148. Kaum Musa, sudoa alaune Musa moi tebothur menea kune perhiasan-perhiasan emas-ne anak sapid a ade awok ngen besuaro, janokah si coa namen bahwa anak sapai-o coa dapet miling ngen si coa dapet kulo temunjuk dalen utuk si, si menea-ne (utuk sembeak) si-o bat un-tun da zalim.

وَأَخَذَ قَوْمَ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلْمَ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ

149. Dan sudo si kembiak nyesoa uleakne si namen bahwa si bik tersesat si pun madeak sebenea-ne amen Thuan keme coa saying ngen keme gen coa mapun keme pasetba keme ijai tun-tun da rugai.

وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدَّ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

150. Dan idong Musa sudo belek ngen kaum-ne ngen mengiak samo sedih atei, miling ba si padeak kidekne uleak udi kemrejo idong uku alau, janokah udi lok demno janjai tuhanmu, Musa megep lukh-lukh (taurat)-o ngen megong buk ulau p[asuak-ne (Harun) samo temarikne moi adep-ne. Harun madeak hoi anak indoku sebeneane kaum yo sudo mang(g)ep uku lemah gen galit-galit si munuak uku, jibeak-ba udi menea musuak-musuak riang kemliak uku gen jibeak ba udi empek uku moi lem klopok tun-tun da z a l i m .

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَنَ أَسْفًا قَالَ بِنِسْمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَالْقَى الْأَلْوَاخَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

151. Musa mendu-o hoi Tuhan ku apun ba uku ngen sepasuak ku nepekba keme moi lem rahmat-Mu Ko yoba paling penyayang neak antaro para penyayang.
- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾
152. Sebeneane tun-tun da menea anak sapai (utuk sembeaknu) konyo paset tenimpo murka tuhanne ngen kehinaan lem kehipan neak dunnyo, awei-o ba Keme melei bales utuk tun-tun da menea kike.
- إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجَلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وِذْلَةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾
153. Tun-tun da kemrejo kidek sudo-o tobat, sudo-o beimen, sebeneane Tuhan udi sudo tobat-o, paling mapun ngen paling p e n y a n g .
- وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾
154. Sudo mengiak Musa reda lajau nemokne igai laukh-laukh (taurat-o) lem tulisan-ne ade petunjuk ngen rahmat utuk tun-tun da saben ngen tuhan-ne.
- وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابِحَ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾
155. Dan Musa miliak tujuak puluak tun kunei kaum-ne utuk (minoi taubat ngen Keme neak waktau da bik sudo Keme tentau, mako idong si kenucang gepo bumei Musa madeak hoi Tuhan ku amen Ko kemlok pasetba Ko membinasakan si ngen uku ayok yo. Janokah Ko membinasakan keme kerno kerjo (uleak) tun-tun da ku-ang akea neak antaro keme ? do-oba cobaan kunei-Nu Ko menyematkan ngen coba-an-o api da ko kemlok, dank o melei petunjuk ngen api da ko kemlok, Ko-ba pemimpin keme, mako napunba keme ngen neleiba keme rahmat, Ko-ba sebaik-baik da melei apun.
- وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

156. Dan tentep-ba utuk keme da baik neak dunnyo ngen akhirat, sebeneane keme belek (taubat) ngen-Ko. Allah madeak sikso-Ku lok Kutemipo ngen apei da Uku kemlok, rahmat-Ku meliputi kute-kute-ne, mako Uku lok tentep rahmat-Ku utuk tun-tun da takwa, mbayar zakat, dan tun-tun da beimen ngen ayat-ayat K e m e .
- ﴿ وَأَكْتَبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتَبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِغَايَتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾
157. (Dio-ba) tun-tun da temotoa rasul, nebai da ummi (gen-ne) si dapet nulis neak lem Taurat ngen Injil da ade neak adep-ne meluak si kemrejo da ma'ruf dan meuak kerjo da mungkar, menghalalkan utuk-ne kute da baik ngen mengharamkan utuk-ne da kidek, dan muang kune-ne ban-ban ngen belenggu-belenggu da ade pado-ne, mako tun-tun da beimen ngen si da memuliyakan-ne temulung-ne dan tenotoa cahayo d ate-ang da temu-un ngen si (Quran) si-obe tun-tun da b u t u n g .
- ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْدُوثُهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾
158. Kadeakba hoi manusio sebenea-ne uku yoba utusan Allah ngen udi kutene, dio ba Allah da ade kerajaan lenget ngen bumei, coa ade tuhan (da berhak sembeak) seluyen Si, da midup ngen munuak, mako beimen ba ngen Allah, rasul-ne nebai da ummi da beimen ngen Allah ngen kalimat-kalimat-Ne (kiteb-kiteb-Ne), toto-a ba si supayo udi dau d a p e t p e t u n j u k .
- ﴿ قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسُ إِنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾
159. Dan neak antaro kaum Musa-o ade suatu ummat da melel petunjuk (ngen manusio) ngen haq-o ba si maneu adea.
- ﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ ۗ

يَعْدِلُونَ ﴿١٥٦﴾

160. Dan Keme magiak si ijai duai belas suku da masing-masing-ne jumlahne dau, Keme wahyukan ngen Musa idong kaum-ne minoi bioa ngen si, kokoa ba butau-o ngen tokot-nu mako macua ba kunei butau-o duai belas matai bioa, sebenea-ne tiep suku namen plabai menem dewek-dewek, dan Keme mayung mbun neak das-ne, dan Keme temu-un ngen si manna ngen salwa (Keme madeak) kem(b)ukba da baik-baik kunei jano dasudo Keme rezkaikan ngen udi, si coa smikso Keme tapi si-ba da terus smikso d i r a i n e d e w e k .

وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِطًا ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ ۖ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ ۖ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ ۖ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٥٦﴾

161. (Dan inget-ba) idong madeak ngen si (bani Israil) diemba neak negraiyo bae (baitul Maqdis) dan kemuk-ba kunei (asea bumei)ne neak ipe bae udi kemlok, kadeak-ba bebaskan-ba keme kunei duso keme, masu-ba moi bang gerbang-ne samo hormat paset Keme mapun kesaleak-nu, konyo paset Keme tenambeak (pahalo) ngen tun-tun da m e n e a b a i k .

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ ۖ سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥٧﴾

162. Mako tun-tun da zalim neak antro si-o gemitei (kecek-o) ngen madeak da coa kemecek ngen si mako Keme temipo ngen si azab kunei lenget jerno k e z a l i m a n - n e .

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٥٨﴾

163. Dan tanye-be ngen bani Israil tentang negrai plabai-ne pa-ok laut idong si melanggea aturan pado bilai sabtu neak waktau teko ngen si dau kan (ade neak skitar)ne teapung-apung neka das bio-a, dan neak bilai da iso sabtu kan-kan-o coa teko ngen si, awei-o ba Keme semobo

وَسَأَلْتَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۖ لَا تَأْتِيهِمْ

(mujai) si sebab kemrejo da pasik.

164. Dan inget-ba idong suatu ummat neak antaro-ne madeak gentai udi nelei pelajaran kaum da Allah lok mbinasokane atau mazabsi ngen azab da kembang, si njawab buliak keme ade alasan (empas tanggung jawab) ngen tuhan-nu buliak si betakwa.
165. Mako idong si coa tinget jano da minget ngen si, Keme semlamat tun-tun da ten(g)eak kunei kerjo kidek dan Keme tenipo ngen tun-tun da zalim sikso dagis kerno si terus kemrejo pasik.
166. Makoidong si ules ombong adep jano da si temgeak kunei mengerjokan-ne, Keme madeak ngen si jijai-ba udi be-uk da hino.
167. Dan (ingetba) idong tuhannu melei namen, awei-o sebenea-ne si lok kemirim ngen si (tun-tun Yahudi) samei bilai kiyamat tun-tun da lok tenipo ngen si azab da kemdiak kidek, sebenea-ne tuhan-nu kemdiak gacang sikso-Ne, dan sebenea-ne Si-o ba paling pengapun kulo paling penyayang.
168. Dan Keme magiak-magiak si neak dunnyo-yo ijai dau golongan neak antarone ade tun-tun da sholeh ngen neak antarone ade da coa awei-o, dan Keme semobone ngen (ni'mat) da baik-baik gen (musibah) da kidek-kidek buliak si belek (ngen kebenea).

كَذَلِكَ نَبُؤُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٢﴾

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إلی رَبِّكَمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَخْبَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَیْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾

وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٧﴾

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِنْهُمْ أَلْصَلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾

169. Mako tekobe sudo si generasi (da kameak) da meawarisi Taurat mok harto bendo da rendeak-yo ngen madeak keme lok nelei apun dan konyo amen teko ngen si hatu benda konyo dau-o (kulo) paset si lok mok-ne, isokah janjai Taurat sudo nemok kunei si, dio ba si coal ok madeak adep Allah seluyen da benea padahal si sudo belajea jano da ade neak lem-ne, dan sade akhirat-o lebiak d\baik utuk tun-tun da betakwa, mako janokah udi k u t e n e c o a n a m e n ? .

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ
عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ
يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ ۗ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ
مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَالْدَارُ الْأُخْرَىٰ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾

170. Dan tun-tu da bepegong teguak ngen Al-Kiteb (taurat) kulo tengok semyang (lok nelei pahalo) kerno sebenea-ne Keme coa menyio-nyiokan pahalo tun-tun da made p e r b a i k a n .







وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا
لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾

171. (Dan inget ba) idong Keme maket tebo moi dasne, tebo-o awei plabai mbun dan si bahwa tebo-o lok cucia temipo si (dan Keme madeak ngen si) kegong ba ngen kuwet jano da sudo Keme melei ngen ko kulo inget ba terus (nadakba) janoda ade neak lemne buliak udi ijai tun-tun da b e t a k w a .

﴿ وَإِذْ تَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ
وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

172. Dan inget ba idong Tuhan-nu kemluwea keturunan anak-anok Adam kunei sulbine, si ngen Allah mok kesaksian adep nyabai si samo madeak isokah Uku Tuhan-mu, si jemawab betoa(Ko Tuhan keme) keme ijai saksai (keme kemrejo da awei-o) buliak neak bilai kiyamat udi dau coa madeak : sebenea-ne keme (bani Adam) di-oba tun-tun da lengah terhadap y o (k e - e s a a n T u h a n) .

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ
قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا
كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

173. Atau buliak udi coa madeak sebenea-ne tun-tun tuwai keme sudo nduai Tuhan kune bel-o, sedangkan keme-o di-o ba anak-anok keturunan da (teko) sudo si. Mako janokah Ko lok mbinaso keme kerno kerjo tun-tun da tesesat bel-o. 
174. Dan awei-o ba Keme jemlas ayat-ayat-o, buliak si belek (ngen kebenea). 
175. Dan bacokan ba ngen si brita tun da sudo Keme melel ngen si ayat-ayat Keme (ilmu tentang isai Al-Kitab) sudo-o si empas dirai kune ayat-ayat-o lajau si tenoto-a syaitan (sapei si tegoda) mako jijai ba si temasuk-tun-tun da tesesat. 
176. Dan kalau Keme kemlok sebenea-ne Keme melkat drajat-ne ngen ayat-ayat-o tapi si cenderung ngen dunya, temotoa hawo nafsune da rendek, mako cotone awei awei kuyuk amen melukne jenulua-ne dileak-ne amen udi munyau-ne si jemulua dileak-ne (kulo) sudo-o ba awei-o ba cotoh tun-tun da mike ayat-ayat Keme mako crito-ba (ngen si) kisah-kisah-o buliak si bepeker. 
177. Padeak kidek cotoh tun-tun da ngike ayat-ayat Keme dan dirai si dewek-ba si m e n e z a l i m . 
178. Api da nelel petunjuk kune Allah, mako si-o ba da dapet petunjuk, api da bik Allah semsat mako sio ba tun-tun da rugai. 

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا
ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ
مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى
الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ
تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرَكَهُ يَلْهَثَ ذَلِكَ مَثَلُ
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ
الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ
كَانُوا يَظْلِمُونَ

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْخَاسِرُونَ

179. Dan sebenea-ne Keme semypap utuk isai nrako jahanam dau kune jin ngen manusio, si ade atei tapi coa gemunp-ne utuk maham (ayat-ayat Allah) si ade matai (tapi) coa gemuno-ne utuk kemliak (tando-tando kekuasaan Allah) si ade tiuk (tapi) coa gemuno-ne utuk temi-uk (ayat-ayat Allah) si-o awei benatang ternok bahkan si lebiak tersesat igai, si-o b a t u n - t u n d a l a l o i .

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ
وَالْإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ
لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ
أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلَّ هُمْ أَضَلُّ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

180. Utuk Allah gen-gen da baik (asmaul husna) mako kinoiba ngen Si ngen mucep asmaul husna-o, tinggea-ba tun-tun da menyimpang kune kebenea lem (madeak) gen-gen-Ne, konyo si paset dapet bales adep jano da sudo si kemrejo.

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ
يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۗ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

181. Dan neak antaro tun-tun da Keme ciptakan ade umat da neli petunjuk nge haq dan ngen da haq-o (kulo) si maneu a d e a .

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ
يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

182. Dan tun-tun da ngike ayat-ayat Keme, konyo Keme paset temarik si ngen begoyo-goyo (moi arah binaso) ngen cao d a c o a s i n a m e n .

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ
لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾

183. Dan Uku melei waktau ngen si, sebenea-ne rencana-Ku kemdiak teguak.

وَأْمَلَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾

184. Janokah (si laloi) ngen coa meker kelok-ne kuwat si (Muhammad) coa bolon gilo si (Muhammad-o) coa luyen si-o ba suang meli peringatan kulo melei p e n j e l a s a n .

أُولَٰئِكَ يَتفَكَّرُونَ ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ إِنَّ هُوَ إِلَّا
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾

185. Janokah si coa merhatikan krajaan l;enget gen bumei ngen kute-kute da ciptaan Allah , kemungkinan sudo pa-o ne binaso-ne? mako gen brita da ipekah igai si lok beimen seluyen ngen quran-o?.

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ
اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ ۗ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ



186. Api da Allah sesatkan mako utuk-ne coa ade tun da lok nelel petunjuk. Allah ngunyau si coa tau keruan lem kesesatan.

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۗ وَيَذَرُهُمْ فِي
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

187. Si temnai ngen ko tentang kiyamat tengengah jijaai-ne , kadeak ba : sebenea-ne ilmu tentang kiyamat-o ba neak sisi Tuhan-ku, coa agok do tun da dapet jemlas waktau tekone seluyen-Si, kiyamat-o kemdiak be-et da neak lenget gen bumei, kiyamat-o coakan teko ngen ko seluyen ngen tibo-tibo. Si betanye ngenko ulesne udi benea-benea lebiak namen. Kadeak ba sebenea-ne ilmu tentang kiyamat-o ba neak sisi Allah, tapi dau manusio coa namen .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِنُهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۗ لَا يُجَلِّئُهَا لَوْفَتَهَا إِلَّا هُوَ ۗ ثَقُلَتْ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ
يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَافِيٌّ عَنْهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ
اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

188. Kadeak ba uku coa bekuaso temarik kemanfa'atan utuk diraiku gen coa kulo temulok kemudaran seluyen da kemlok Allah. Sekirone uku namen da gaib, paset-ba uku menea baik dau-dau, ngen uku coa tempo kemudaran, uku coa luyen hanyoba melei peringatan, ngen mbin brita riang utuk tun-tun da beimen.

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ
اللَّهُ ۗ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ
الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۗ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

189. Si-o ba da menciptakan udi kunei dirai da- do ngen kunei-ne, Si menciptakan gen ngenyan-ne buliak si meding senang kerno-ne, mako sudo si semapua ngenyan-ne-o mengandung da lengan

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ
مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۗ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ

- terusba si meding lengan (beberapa waktu) sudo-o idong si meding be-et, keduaie (ngenyen -sengaten) bekinoi ngen Allah, samo madeak sebenea-ne amen Ko melei keme anak da sempurno, pasetba keme termasuk tun-tun da b e s u k u r .
190. Idong Allah melei ngen keduwai-ne do anak da sempurno, mako keduwai-ne jijai sekutu bagi Allah adep anak da sudo melei-ne ngen keduwai-ne o, mako paling lekat ba Allah kunei jano da si semrai-Ne.
191. Janokah si semrai (Allah ngen) patung-patung da coa dapet menciptakan jano bae ? sedangkan patung-patung-o dewek nemea manusio
192. Dan patung-patung-o coa nam melei petulung ngen da sembeak-sembeak-ne, gen awokne dewekpun patung-patung-o coa dapet meleipetulung.
193. Dan amen udi (hoi tun-tun musyrik) majok (berhala) utuk melei petunjuk ngen ko coa ba berhala-berhala-o dapet kemabok da najok-nu; samo bae (asea-ne) utuk udi majok si atau udi diyem bae.
194. Sebeneane berhala-berhala da udi majok seluyen Allah-o si-o ba mahluk (da lemah) da serai kulo ngen udi, mako kajok-ba berhala-berhala-o lajau kunyau ba si kemabul kino-nu, amen udi memang tun-tun da benea.
195. Janokah berhala-berhala ade kekea ngen kekea-o si dapet panu, atau ade tangen ngen tangen-o si dapet nempeleng atau ade matae ngen matae-o si dapet mengeliak atau ade ti-uk ngen ti-uk-o si dapet ni-uk, kadeakba, keduba berhala-
- حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبُّهُمَا لِيُنزِلَ لَيْنَا صَلِحًا لِنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٨﴾
- فَلَمَّا آتَتْهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨٩﴾
- أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩٠﴾
- وَلَا يَسْتَطِيعُونَ هُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩١﴾
- وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٢﴾
- إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالِكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٣﴾
- اللَّهُمَّ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ هُمْ أَيْدٍ يَبِطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ ۖ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فِلَا

- berhalanu da udi menea sekutu Allah, sudo-o menea tipu-daya (untuk mencelako-kan)tanp melei kesempatan w a k t a u (n g e n u k u) . تَنْظُرُونَ ﴿١٦٥﴾
196. Sebeneane pelindungku si-o ba Allah da sudo temu-un Al-Kitab (quran) Si pelindung tun-tun da sholeh. إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٦٦﴾
197. Dan berhala-berhala da udi majok seluyen Allah, coa ba sanggup temulung udi bahkan coa dapet temulung diraimu dewek. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٦٧﴾
198. Dan amen udi kutene majok(berhala-berhala) utuk melei petunjuk, paset berhala-berhala-o coa dapet temi-uk-ne, udi kemliak berhala-berhala-o ngeliak ngen udi padahal si coa kemliak. وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرْهَبُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٦٨﴾
199. Ijai ba ko pema-ap gen keluakba tun kemrejo da ma'ruf kulo berpaling ba kune t u n - t u n d a b o d o n g . خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٦٩﴾
200. Dan amen udi temimpo suatu godaan syetan mako berlindungba ngen Allah sebeneane Allah paling meni-uk kulopaling lebiak namen. وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾
201. Sebeneane tun-tun da betakwa amen si tenipo was-was kune syetan si inget gen Allah, mako idong-o kulo si kemliak kesaleakne. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾
202. Dan kuat-kuat si (tun-tun kapia gen pasik) temulung syetan-syetan lem sesat si coa bedan-bedan-ne (semsat). وَإِحْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾

203. Dan amen udi coa mbin suatu ayat quran ngen si, si madeak gentai coa udi menea dewek ayat o? kadeakba sebenea-ne uku yoba temotoa jano da diwahyukan Tuhanku ngen uku, quran yoba bukti-bukti da keten kune Tuhan-nu, petunjuk ngen rahmat utuk tun-tun da beimen.
- وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِبَيِّنَةٍ قَالُوا لَوْلَا أُجْتَبِيَّتْهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٢٣﴾
204. Dan amen quran-o nembaco mako ti-uk ba baik-baik ngen perhatikanba ngen tenang buliak udi dapet rahmat.
- وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٢٤﴾
205. Dan kadeak ba (gen) Tuhan-nu lem ati-nu ngen merendeak dirai gen asai saben ngen coa melek suaro, neak waktau pueng ngen pelbeak, jibeakba udi termasuk tun-tun da laloi.
- وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٢٥﴾
206. Sebeneane malaikat-malaikat da ade neak sisi Tuhan-nu coa ba meding be-et sembeak Allah gen si mentasbihkan-Ne, ngen Si ba si besujud.
- إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٢٦﴾